



## سوال

میری المیہ کے پاس 3 تولے سونا ہے، نقدی کچھ نہیں ہے، پچاس ہزار یا اس سے کچھ زیادہ پیسے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا سونے کے ساتھ جو رقم ہے اس پر بھی سال گزرنا ضروری ہے یا نقدی کی صورت میں زکوٰۃ ادا کی آجائگی۔

## جواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

اسلام میں زکوٰۃ کا نصاب متعین ہے۔ ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جب مال نصاب کو پہنچتا ہو تو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام مقرر ہے، اور چاندی کا 595 گرام ہے۔

اگر کسی آدمی کے پاس 85 گرام سونا (ساڑھے سات تولہ) یا 595 گرام چاندی (ساڑھے باون تولہ) یا اس سے زائد مقدار پورا سال پڑی رہے تو سال گزرنے کے بعد اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْكَ أَنْ تَحُولَ فِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنَى فِي الذَّيْبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْكَ أَنْ تَحُولَ فِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَجَسَابَ ذَلِكَ (سنن أبي داود، الزكاة: 1573) (صحیح).

جب تیرے پاس 200 درہم (595 گرام چاندی) ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس میں 5 درہم (زکوٰۃ) ہے، اور تیرے پاس جو سونا ہے اس میں تب زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ 20 دینار (85 گرام) ہو جائے، جب سونا 20 دینار (85 گرام) ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں آدھا دینار (زکوٰۃ) ہے، اور جو اس سے زائد ہو اس کی زکوٰۃ بھی اسی حساب (اڑھائی فیصد) سے دی جائے گی۔

نقدی رقم کے بارے میں درست بات یہی ہے کہ اگر وہ چاندی کے نصاب (ساڑھے باون تولہ) کی قیمت کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چنانچہ اگر ایک شخص کے پاس نقدی ہے لیکن اسکی مقدار اتنی کم ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کے برابر نہیں ہوتی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

لیسے ہی اگر کسی انسان کے پاس سونا ہے لیکن وہ ساڑھے سات تولہ سے کم ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

آپ کے پاس 3 تولے سونا ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

کرنسی پر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی نقدی ہو جو چاندی کے نصاب (ساڑھے باون تولہ) کی قیمت کو پہنچے تو سال گزرنے کے بعد اس سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔



والله أعلم بالصواب

محدث فتوى كميٹی

فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی

شیخ الحدیث حافظ مفتی عبدالستار حماد حفظہ اللہ

فضیلۃ الشیخ اسحاق زاہد

فضیلۃ الشیخ عبدالخالق حفظہ اللہ